

منسلکہ
ضابطہ 1-725

پرنس ولینم کاؤنٹی پبلک سکولز اٹھارہ سال کی عمر کا اقرار نامہ	
طالبعلم/طالبہ کا نام:	موجودہ پتہ:
کیا آپ کے والد یا والدہ/سرپرست آپ کے ساتھ مندرجہ بالا پتے پر رہتے ہیں؟ جی ہاں جی نہیں	
<u>طالبعلم/طالبہ اور والد یا والدہ/سرپرست پڑھیں:</u>	
<p>ریاستی قانون 18 سال کی عمر کے حقوق متعین کرتا ہے۔ کچھ مخصوص استثنیٰ کے، 18 سال والے، ورجینیا کوڈ § 1-204 کے تحت بالغ تصور کیے جاتے ہیں۔ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والے طلباء جو اپنے والدین/سرپرستان کی جگہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو درج ذیل میں اجازت دی جا سکتی ہے، غیر حاضری کے نوٹ اور سکول سے نکلنا (ماسوائے دوپہر کے کھانے کیلئے سکول سے باہر نکلنا)، فیلڈ ٹریپس، تیسرے فریقین کا طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی (ماسوائے ان افراد کے جنہیں رضا مندی کے بغیر رسائی حاصل ہے)، جز وقتی ملازمت، گاڑی کا استعمال، پولیس کی پوچھ گچھ فیملی ایجوکیشن رائٹس اینڈ پرائیویسی ایکٹ کے تحت، منحصر طلباء کے والدین/سرپرست (جیسا کہ انٹرنل ریویو کوڈ برائے 1986 کے سیکشن § 152 میں بیان کیا گیا ہے) کو طالبعلم/طالبہ کے ریکارڈ تک رسائی حاصل ہے۔ مزید برآں، ورجینیا کوڈ § 22.1-277 کے تحت، والدین/سرپرست کو طالبعلم/طالبہ کے سکول سے معطلی یا اخراج کے کسی واقعے کی اطلاع بذریعہ خط دی جائے گی۔ لہذا، سکول حکام طالبعلم/طالبہ کے والدین/سرپرست سے سکول کے معاملات اور سکول سے کسی قسم کی معطلی یا اخراج کے بارے میں رابطہ رکھیں گے، اگرچہ طالبعلم/طالبہ نے اقرار نامے کو بھر دیا ہے۔ The سکول والدین/سرپرست کو دستخط شدہ اقرار نامے کی نقل بھیج کر اس امر سے مطلع کرے گا۔</p>	
<u>طالبعلم/طالبہ مکمل کریں:</u>	
<p>میں _____، اس اقرار نامے پر دستخط کر کے یہ سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ سکول مجھ سے ایک بالغ کے طور پر بات کرے گا اور میں درج ذیل پر عمل کروں گا/گی:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اگر میں غیر حاضر ہوں یا دیر سے آتا/آتی ہوں تو میں تمام طلباء پر نافذ العمل حاضری کے طریقہ کار پر عمل کروں گا/گی۔ • میں ان صورت حالوں میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھوں گا/گی جہاں عام طور پر والدین/سرپرست، ان کی اجازت یا دستخط درکار ہیں۔ اس ذمہ داری میں حاضری، فیلڈ ٹرپ کی اجازت، کھیلوں کے جسمانی فارم، جز وقتی ملازمت، گاڑی کا استعمال اور پولیس کی پوچھ گچھ شامل ہے۔ • میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے ہر استاد/استانی کو مطلع کیا گیا ہے کہ میں نے اقرار نامے پر دستخط کیے ہیں۔ • میں اس اقرار نامے کی نقل اپنے ساتھ رکھوں گا/گی اور درخواست کرنے پر سکول حکام پر دکھاؤں گا/گی۔ • میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ مجھے سکول ڈویژن ک تمام پالیسیوں اور ضوابط کی تعمیل کرنا ہے ماسوائے ان کے جو اس اقرار نامے میں درج ہیں۔ • میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ کچھ حالات میں سکول میرے والد یا والدہ/قانونی سرپرست سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ان حالات میں درج ذیل شامل ہیں مگر ان تک محدود نہیں، "ضابطہ اخلاق کی شدید خلاف ورزی"، سکول سے معطلی اور/یا اخراج، اور میری ذہنی یا جسمانی صحت اور بہبود سے متعلق خدشات۔ میں یہ بھی سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میرے والدین/سرپرستان معاملات سے متعلق تحریری اطلاع ناموں کی نقول وصول کریں گے۔ 	
_____	_____
طالبعلم/طالبہ کے دستخط - تاریخ	پرنسپل/نامزد کردہ کے دستخط - تاریخ
فارم نمبر - 7530-0641 (نظر ثانی شدہ 18-7)	